

۶ رُكُوْعَاتِهَا ۶	(۲۳) مِیْرَاةَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِمَا مَلَكَتْهُنَّ (۷۴)	۱۱۸ آیتیں ہیں
اور ۶ رکوع ہیں	سورۃ المؤمنون مکہ میں نازل ہوئی	اس میں ۱۱۸ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

یقیناً کامیاب ہیں وہ جو ایمان لائے۔ جو اپنی نماز میں خشوع کرنے

حَشَعُونَ ﴿۲﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿۳﴾

والے ہیں۔ اور جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فِعْلُونَ ﴿۴﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ

اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے

حَفِظُونَ ﴿۵﴾ اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ

والے ہیں۔ مگر اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنی باندیوں کے ساتھ

فَاتَهُمْ غَيْرُ مَلْؤُمِیْنَ ﴿۶﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذٰلِكَ

اس لیے کہ اُن پر (اُن میں) کچھ ملامت نہیں۔ پھر جو اس کے علاوہ تلاش کرے گا

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُونَ ﴿۷﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ

تو یقیناً وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی دیکھ بھال کرنے

رِعُونَ ﴿۸﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلٰوةِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۹﴾

والے ہیں۔ اور جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُونَ ﴿۱۰﴾ الَّذِیْنَ یَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ۗ

یہی لوگ وارث ہیں۔ وہ لوگ جو وارث ہوں گے جنت الفردوس کے۔

هُمُ فِیْهَا خٰلِدُونَ ﴿۱۱﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ

وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا

مِّنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِیْنٍ ﴿۱۲﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِیْ قَرَارٍ

مٹی کے خلاصہ سے۔ پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر رکھا ایک محفوظ

مَّكِیْنٍ ﴿۱۳﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا

جگہ میں۔ پھر ہم نے نطفہ کو جما ہوا خون بنایا، پھر ہم نے

الْعَلَقَةَ مُمْضَعَةً فَنَلَقْنَا الْمُضْعَةَ عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ

جسے ہوئے خون کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر گوشت کے ٹکڑے سے ہم نے ہڈیاں پیدا کیں، پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر

لِحْمَاهُ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ

گوشت چڑھایا۔ پھر ہم نے اس کو ایک دوسری شکل میں بنایا۔ پھر اللہ کتنا اچھا پیدا کرنے والا،

الْخَالِقِينَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَلْكَافِرُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ

با برکت ہے۔ پھر تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو۔ پھر یقیناً تم

يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعَثُونَ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۝

قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان پیدا کیے۔

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

اور ہم مخلوق سے غافل نہیں۔ اور ہم نے آسمان سے پانی ایک مقدار سے

بِقَدَرٍ فَأَسْكَبْتُهُ فِي الْأَرْضِ ۝ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهَا

اتارا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا۔ اور یقیناً ہم اس کے لے جانے پر بھی

لِقَادِرُونَ ۝ فَانْشَأْنَا لَكُمْ فِيهَا مِنْ نَحِيلٍ

قادر ہیں۔ پھر ہم نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعہ کھجور اور انگور کے باغات

وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

اگائے۔ تمہارے لیے ان میں بہت سارے میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَيْغ

اور اس درخت کو (بھی پیدا کیا) جو طور سیناء سے کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لے کر

لِللَّكْلِينَ ۝ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۝ نُسْقِيكُمْ

اگتا ہے۔ اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے، کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں

مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا

اس چیز سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں اور تمہارے لیے ان میں اور دوسرے بہت سے فائدے بھی ہیں اور ان میں

تَأْكُلُونَ ۝ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝ وَلَقَدْ

سے بعضوں کو تم کھاتے بھی ہو۔ اور تم ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر سوار کرتے ہو۔ اور یقیناً

أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا

ہم نے رسول بنا کر بھیجا نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف، پھر نوح (علیہ السلام) نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی

لَكُمْ مِنَ الْوَالِدِ الْعَظِيمِ ۖ اَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۷﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ

عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو سرداروں نے کہا

كُفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۗ يُرِيدُ

جو کافر تھے آپ کی قوم میں سے کہ یہ نوح نہیں ہے مگر تم جیسا انسان۔ وہ یہ چاہتا ہے

اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَآَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۗ

کہ تم پر فضیلت پائے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا۔ ہم

مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْ اٰبَائِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿۱۸﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ

نے یہ بات ہمارے پہلے باپ داداؤں میں نہیں سنی۔ یقیناً یہ نوح تو صرف ایک ایسا آدمی ہے

بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرْتَبِّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿۱۹﴾ قَالَ رَبِّ اَنْصُرْنِيْ

جسے جنون ہے، تو تم اس کے متعلق انتظار کرو ایک وقت تک۔ نوح (علیہ السلام) نے فرمایا اے میرے رب! تو

بِمَا كَذَّبُوْنَ ﴿۲۰﴾ فَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهٖ اِنْ اَصْبَحَ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا

میری نصرت فرما اس پر جو انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ تو ہم نے نوح (علیہ السلام) کی طرف وحی کی کہ آپ کشتی بنا لیں ہماری

وَوَحِيْنًا فَاِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنٰوْرُ ۗ فَاسْلُكْ فِيْهَا

آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے، پھر جب ہمارا حکم آجائے اور تنور جوش مارنے لگے، تو اس میں داخل کر لو

مِنْ كُلِّ زَوْجِيْنَ اٰثْنِيْنَ وَاَهْلِكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ

ہر چیز کا جوڑا (یعنی) دو دو اور اپنے ماننے والوں کو مگر وہ جن کے بارے

عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۗ وَلَا تُخَاطَبُنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

میں پہلے سے بات ثابت ہو چکی ہے۔ اور تم مجھ سے بات نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو مشرک ہیں۔

لَا تَرْمُ مُّعْرِفُوْنَ ﴿۲۱﴾ فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ

اس لیے کہ یہ غرق کیے جائیں گے۔ پھر جب آپ اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں کشتی پر برابر سوار

عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بَجَدْنَا مِنَ الْقَوْمِ

ہو جائیں تو یوں کہنے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے

الظٰلِمِيْنَ ﴿۲۲﴾ وَقُلْ رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَاَنْتَ

نجات دی۔ اور یوں کہنے اے میرے رب! تو مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو

حٰخِرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿۲۳﴾ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّ اِنْ كُنَّا

بہترین اتارنے والا ہے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اور یقیناً

لِكَبْتَلَيْنَ ۝ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۝

ہم آزمانے والے ہیں۔ پھر اُن کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کیں۔

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ

پھر ہم نے اُن میں بھی انہی میں سے رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے

مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ

اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور اُن کی قوم کے سرداروں نے کہا

الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالِخَيْرَةِ وَأَنْتُمْ

جو کافر تھے اور جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا اور ہم نے انہیں دینیوی زندگی میں

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۖ يَأْكُلُ

آسودہ بنا رکھا تھا۔ (انہوں نے کہا کہ) یہ تو نہیں ہے مگر تم جیسا ایک انسان۔ وہ کھاتا ہے

مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۝

اس میں سے جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے اس میں سے جو تم پیتے ہو۔

وَلَكِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَسِرُونَ ۝ أَلَيْدُكُمْ

اور اگر تم کہنا مان لو گے اپنے جیسے ایک انسان کا تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والے ہو۔ کیا وہ تم سے وعدہ

أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ ۝

کرتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔

هِيَ هَاتِ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۝ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا

دور ہے دور ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے مگر ہماری دینیوی

الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ إِنَّ هُوَ

زندگی کہ ہم مرتے ہیں اور ہم زندہ ہوتے ہیں اور ہم دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے نہیں جائیں گے۔ یہ نبی

إِلَّا رَجُلٌ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۝

نہیں ہے مگر ایک شخص جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ۝ قَالَ عَمَّا قَالُوا

نبی نے کہا کہ اے میرے رب! تو میری نصرت فرما اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ اللہ نے فرمایا کہ تھوڑے

لِيُصِيبَهُمْ نَذِيرٌ ۝ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ

بہی دنوں میں یہ ضرور نادم ہوں گے۔ پھر اُن کو ایک چیخ نے پکڑ لیا سچے وعدہ پر، پھر ہم نے انہیں

<p>عُنَاۗءَ ۚ فَبَعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿۲۱﴾ ثُمَّ اَنْشَاْنَا کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ پھر ناس ہو ظالم قوم کے لیے۔ پھر ہم نے</p>
<p>مِّنۢ بَعْدِهِمْ قُرُوۡنًاۙ اٰخَرِيْنَ ﴿۲۲﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْۢ اُمَّةٍۭ اِجْلَہَا ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کیں۔ کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے جاسکتی ہے</p>
<p>وَمَا يَسْتَاخِرُوۡنَ ﴿۲۳﴾ ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَاۗءٍ ۚ كُلَّمَا اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ پھر ہم نے اپنے رسول لگاتار بھیجے۔ جب کبھی</p>
<p>جَاۗءَ اُمَّةًۭ رَّسُوْلُهَآ كَذَّبُوۡهُۥ فَاتَّبَعْنَاۙ بَعْضَهُمْۙ بَعْضًا کسی امت کے پاس اُن کا رسول آتا تو وہ اسے جھٹلاتے، پھر ہم بھی اُن میں سے ایک کے بعد دوسرے کو</p>
<p>وَجَعَلْنٰهُمْۙ اٰحَادِيۡثَ ۚ فَبَعْدًا لِّلْقَوْمِۭ لَآ يُؤْمِنُوۡنَ ﴿۲۴﴾ ہلاک کرتے چلے گئے، اور ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا۔ پھر ناس ہو ایسی قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی۔</p>
<p>ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰی وَاٰخَاۗءَ هٰرُوۡنَ ؕ بِالْبَيۡتِۙنَا وَاَسۡلٰطِيۡنَ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون (علیہما السلام) کو رسول بنا کر بھیجا اپنے معجزات دے کر اور روشن</p>
<p>مُّبِيۡنٍ ﴿۲۵﴾ اِلٰی فِرْعَوۡنَ وَّمَلَآئِہٖ فَاسْتَكْبَرُوۡۤا وَكَانُوۡۤا قَوْمًا دلیل دے کر۔ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑائی مارنے والے</p>
<p>عٰلِيۡنَ ﴿۲۶﴾ فَقَالُوۡۤا اَنۡۢؤۡمِنُ لِۢبَشَرِيۡنَ مِثۡلَنَا وَاَقۡوَمٰہُمَا لوگ تھے۔ پھر انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں اپنے جیسے دو انسانوں پر حالانکہ اُن کی قوم</p>
<p>لَنَاۙ عِبٰدُوۡنَ ﴿۲۷﴾ فَكَذَّبُوۡۤہُمَا فَكَانُوۡۤا مِنَ الْمُهۡلِكِيۡنَ ﴿۲۸﴾ ہماری غلام ہے۔ پھر انہوں نے اُن دونوں کو جھٹلایا، چنانچہ وہ ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے۔</p>
<p>وَلَقَدْ اَتٰنَا مُوْسٰی الْكِتٰبَ لَعَلَّہُمْۙ يَهْتَدُوۡنَ ﴿۲۹﴾ اور یقیناً ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب دی، شاید وہ لوگ ہدایت پائیں۔</p>
<p>وَجَعَلْنَاۙ اِبۡنَ مَرْیَمَ وَاُمَّةًۭ اٰیۃً ۙ وَاَوٰیۡنِہُمَاۙ اِلٰی رَبُوۡۤہٗ اور ہم نے مریم (علیہا السلام) کے بیٹے اور اُن کی ماں کو عجزہ بنا دیا اور ہم نے اُن دونوں کو ٹھکانا دیا ایک ٹیلہ کے پاس</p>
<p>ذٰتِ قَدٰرٍ وَّمَوَعِيۡنٍ ﴿۳۰﴾ یٰۤاٰیہَا الرُّسُلُ کُلُوۡۤا جو ٹھہرنے کے لائق اور چشمہ والا تھا۔ اے پیغمبرو! تم کھاؤ</p>
<p>مِنَ الطَّیِّبٰتِ وَاَعْمَلُوۡۤا صٰلِحًاۙ اِنِّیۡۤ اِنۡۢبِیَاۡتِہُمۡ عَلَیۡہِمْ ﴿۳۱﴾ پاکیزہ چیزوں میں سے اور اعمالِ صالحہ کرو۔ یقیناً میں تمہارے اعمالِ خوب جانتا ہوں۔</p>

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿۵۲﴾

اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو تم مجھ سے ڈرو۔

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ

پھر وہ اپنے (دین کے) معاملہ میں جماعتیں بن کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ہر گروہ اس پر خوش ہے

فَرِحُونَ ﴿۵۳﴾ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۵۴﴾ أَيْحَسِبُونَ

جو ان کے پاس ہے۔ اس لیے آپ ان کو ان کی گمراہی میں ایک وقت تک چھوڑ دیجیے۔ کیا یہ گمان کر رہے ہیں

أَنَّمَا نُؤْتُهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَيْنَا نَسْرَعُ لَهُمْ

کہ جو ہم مال اور بیٹے نہیں دے رہے ہیں، تو ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ بلکہ

فِي الْخَيْرَاتِ ۗ بَلْ لَّا يَشْعُرُونَ ﴿۵۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ

یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ یقیناً وہ جو اپنے رب کے خوف سے

رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۵۶﴾ وَالَّذِينَ هُمْ يَأْتِي رَبَّهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۷﴾

ڈرتے ہیں۔ اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۵۸﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ

اور جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اور دیتے ہیں وہ جو بھی

مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿۵۹﴾

دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۗ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿۶۰﴾

یہی لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی اس کی طرف سہقت کرنے والے ہیں۔

وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَ لَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ

اور ہم کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی طاقت کے مطابق اور ہمارے پاس کتاب (اعمال نامہ) ہے

بِالْحَقِّ ۗ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۶۱﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ

جو سچائی کے ساتھ (ہر بات) بتلا دے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ بلکہ ان کے دل اس سے غفلت

مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿۶۲﴾

میں ہیں اور ان کے اس کے علاوہ اور بھی اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ ﴿۶۳﴾

یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے، تو فوراً وہ چلانے لگیں گے۔

لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ اِتَّكُم مِّنَّا لَا تَنْصُرُونَ ﴿۱۰﴾ قَدْ كَانَتْ

(کہا جائے گا کہ) آج مت چلاؤ۔ یقیناً تمہاری ہم سے (بچانے کے لیے) مدد نہیں کی جائے گی۔ اس لیے

اَلَيْتِي نُنَالِي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰی اَعْقَابِكُمْ تَنْكِبُونَ ﴿۱۱﴾

کہ ہماری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھیں، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل اٹھے بھاگتے تھے۔

مُسْتَكْبِرِينَ ﴿۱۲﴾ بِهٖ سَلِيْرًا تَهْجُرُونَ ﴿۱۳﴾ اَفَلَمْ يَذْكُرُوا

تکبر کرتے ہوئے، رات میں قرآن کے خلاف قسم گوی کرتے، اس کو چھوڑتے ہوئے۔ کیا انہوں نے اس

الْقَوْلِ اَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ اَبَاءَهُمُ الْاَوَّلِينَ ﴿۱۴﴾

بات میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس آئی وہ چیز جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی؟

اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكَرُونَ ﴿۱۵﴾

یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، پھر وہ اسے اجنبی سمجھتے ہیں؟

اَمْ يَقُولُوْنَ بِهٖ حِجَابٌ ۗ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَاكْثَرَهُمْ

یا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو جنون ہے؟ بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے اور ان میں سے اکثر

لِلْحَقِّ كَرِهُوْنَ ﴿۱۶﴾ وَلَوْ اَنَّ حَقَّ اُنْ كِي حَوَاشَاتِ كِ تَالِجِ هُوْتَا تُو اَسْمَانِ

حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہوتا تو آسمان

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۗ بَلْ اَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ

اور زمین اور جو ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے۔ بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں،

فَهُمْ عَنِ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۱۷﴾ اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا

پھر وہ اپنی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ کیا آپ ان سے خرچ کا سوال کرتے ہیں؟

فَخَرَجَ رِبِّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِيْنَ ﴿۱۸﴾ وَاِنَّكَ

پھر آپ کے رب کا دیا ہوا خرچ بہتر ہے۔ اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔

لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۹﴾ وَاِنَّ الَّذِيْنَ

اور یقیناً آپ انہیں بلاتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ اور جو

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيْبُوْنَ ﴿۲۰﴾

آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے منہ موڑ رہے ہیں۔

وَلَوْ رَحْمٰنُهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بَیْنَهُمْ مِّنْ صُبْرٍ لَّكُنُوْا فِيْ طَغْيٰنِهِمْ

اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان سے اس تکلیف کو دور کر دیں جو ان کو ہے تو ضرور وہ لگے رہیں گے اپنی شرارت میں

يَعْمَهُونَ ﴿۵﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا	بہکتے ہوئے۔ اور یقیناً ہم نے اُن کو عذاب میں پکڑا، پھر انہوں نے اپنے رب کے سامنے
لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْصُرِعُونَ ﴿۶﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا	نہ عاجزی کی اور نہ گڑگڑائے۔ یہاں تک کہ جب ہم نے اُن پر سخت عذاب کا
ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْسُونَ ﴿۷﴾ وَهُوَ الَّذِي	دروازہ کھول دیا تو اچانک وہ اس میں مایوس ہو کر رہ گئے۔ اور وہی اللہ ہے
أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا	جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ بہت کم
مَا تَشْكُرُونَ ﴿۸﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ	تم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا
وَالِيهِ تَحْشَرُونَ ﴿۹﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ	اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کے لیے
اِخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۰﴾ بَلْ قَالُوا	رات اور دن کا آنا جانا ہے۔ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ بلکہ انہوں نے کہی
مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿۱۱﴾ قَالُوا إِذَا مَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا	اسی جیسی بات جو پہلوں نے کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور
وَعِظَامًا عَائِنًا لِمَبْعُوثُونَ ﴿۱۲﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا	بڑیاں ہو جائیں گے، تو کیا ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ یقیناً ہم سے اور ہمارے باپ داداؤں سے
هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۳﴾ قُلْ	بھی اس کا اس سے پہلے وعدہ کیا گیا، یقیناً یہ پہلے لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ آپ فرمادیجیے
لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ سَيَقُولُونَ	کہ کس کی ملک ہے زمین اور وہ جو زمین میں ہیں اگر تمہیں معلوم ہے؟ عنقریب وہ کہیں گے
بِاللَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۵﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ	کہ اللہ کی۔ آپ فرمادیجیے کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آپ فرمادیجیے کون ساتوں آسمانوں کا رب ہے
وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۱۶﴾ سَيَقُولُونَ بِاللَّهِ قُلْ أَفَلَا	اور عرشِ عظیم کا رب ہے؟ عنقریب وہ کہیں گے کہ اللہ۔ آپ فرمادیجیے کہ کیا پھر تم

تَسْقُونَ ﴿۵۷﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ

ڈرتے نہیں ہو؟ آپ فرمادیجیے کہ کس کے قبضہ میں ہے ہر چیز کی سلطنت اور جو پناہ دیتا ہے

وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۵۸﴾ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ

اور اس پر کسی کو پناہ نہیں دی جاسکتی اگر تمہیں معلوم ہے؟ عنقریب وہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے۔

قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿۵۹﴾ بَلْ أَتَيْنَهُم بِأَلْحَقٍ وَإِنَّهُمْ

آپ فرمادیجیے کہ پھر تم کہاں سے جاوڑدہ ہو جاتے ہو؟ بلکہ ہم اُن کے پاس حق کولائے ہیں اور یقیناً وہ

لَكَذِبُونَ ﴿۶۰﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ

جھوٹے ہیں۔ اللہ نے اولاد نہیں بنائی اور اس کے ساتھ کوئی

مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ

موجود نہیں۔ تب تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ایک

عَلَى بَعْضٍ ۗ سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۶۱﴾ عَلِيمِ الْغَيْبِ

دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ پاک ہے اُن باتوں سے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ جو پوشیدہ اور ظاہر کو

وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۲﴾ قُلْ رَبِّ إِنَّمَا نُرِيدُ

جاننے والا ہے، پھر برتر ہے اس سے جو یہ شریک بناتے ہیں۔ آپ فرمادیجیے اے میرے رب! اگر تو مجھے

مَا يُوعَدُونَ ﴿۶۳﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۶۴﴾

دکھائے وہ جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ اے میرے رب! تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل مت کرنا۔

وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿۶۵﴾ اِذْفَعِ بِالْعِجْبِ

اور یقیناً ہم اس پر قادر ہیں کہ آپ کو دکھادیں وہ عذاب جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں۔ آپ دفع کیجیے

هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ۗ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿۶۶﴾

برائی کو اس طریقہ سے جو بہتر ہو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں۔

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿۶۷﴾ وَأَعُوذُ

اور آپ فرمادیجیے اے میرے رب! میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور میں تیری پناہ

بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ ﴿۶۸﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ یہاں تک کہ جب اُن میں سے کسی ایک کی موت آئے گی تو

قَالَ رَبِّ اجْعَلْنِي ﴿۶۹﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

وہ کہے گا اے میرے رب! تو مجھے (دنیا میں) واپس لوٹا دے۔ شاید میں نیک عمل کروں اس دنیا میں جس کو میں چھوڑ کر آیا ہوں۔

كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ

ہرگز نہیں۔ یقیناً یہ (بے معنی) کلام ہے جو وہ کہے جا رہا ہے۔ اور ان کے پیچھے

بَرَزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ

برزخ ہے اس دن تک جس دن (قبروں سے) مردے اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب صور میں پھونک ماری جائے گی

فَلَا أُنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۝ فَمَنْ

تو ان کے درمیان اس دن نہ رشتہ داریاں ہوں گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ پھر جن کے

ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ

وزن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو یہ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جن کے

خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا

وزن کے پلڑے ہلکے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو

أَنفُسُهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۝ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمْ

خسارہ میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہرے جھلسا

النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۝ أَلَمْ تَكُنْ أَلَيْسَىٰ

دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو کر پڑے رہیں گے۔ (کہا جائے گا) کیا میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں

عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ

کی جاتی تھیں، پھر تم ان آیتوں کو جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم پر

عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

ہماری بدبختی غالب آگئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب! تو ہمیں جہنم سے نکال،

مِنْهَا فَإِن عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۝ قَالَ اخْسَؤْا فِيهَا

پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو یقیناً ہم تصوروار ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ تم اس میں ذلیل ہو کر پڑے رہو

وَلَا تُكَلِّمُونِ ۝ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي

اور تم مجھ سے بات مت کرو۔ اس لیے کہ میرے بندوں کی ایک جماعت

يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ

کہتی تھی کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے، تو ہماری مغفرت کر دے اور تو ہم پر رحم فرما اور تو بہترین رحم

الرَّحِيمِينَ ۝ فَاتَّخَذَ سُبُوهُمْ سِجْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُم

کرنے والا ہے۔ تو تم نے انہیں مذاق بنایا تھا یہاں تک کہ انہوں نے تم سے میری

ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَصْحُكُونَ ﴿۱۱﴾ اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ

یاد کو بھلا دیا تھا اور تم ان سے ہنستے رہے۔ یقیناً میں نے آج انہیں بدلہ دیا

بِمَا صَبَرُوا ۗ اَنْهَمُ هُمُ الْفٰئِزُونَ ﴿۱۲﴾ قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ

اُن کے صبر کا کہ وہ ہی کامیاب ہیں۔ اللہ پوچھیں گے کہ تم زمین

فِي الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿۱۳﴾ قَالُوا لَيْتَنَا يَوْمًا

میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا رہے؟ وہ کہیں گے کہ ایک دن

اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِ الْعٰدِيْنَ ﴿۱۴﴾ قُلْ اِنْ لَبِئْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا

یا ایک دن سے بھی کم، پھر آپ گننے والوں سے پوچھ لیجیے۔ اللہ فرمائیں گے کہ تم نہیں رہے مگر تھوڑا،

لَوْ اَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۵﴾ اَفْحَسِبْتُمْ اَنْمَّا خَلَقْنٰكُمْ

کاش کہ تم جانتے۔ یا پھر تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار

عَبَثًا وَّاَنْتُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۶﴾ فَتَعٰلٰى اِلٰهَ الْمَلِكِ

پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف واپس نہیں لائے جاؤ گے؟ پھر اللہ جو برحق بادشاہ ہے،

الْحَقُّ ۗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيْرِ ﴿۱۷﴾ وَمَنْ

وہ برتر ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اور جو

يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۗ فَاَتَمَّ

اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب صرف

حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهٖ ۗ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۱۸﴾

اس کے رب کے یہاں ہوگا۔ یقیناً کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَّارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ ﴿۱۹﴾

اور آپ کہہ دیجیے اے میرے رب! تو مغفرت فرما اور رحم کر اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔

۶۳ (الْبَاقِيَاتُ ۶۳) (۲۳) سُورَةُ الْبُرٰجِ مَكِّيَّةٌ (۱۰۲) رُوِّعَتْهَا ۹

اس میں ۶۳ آیتیں ہیں سورۃ النور مدینہ میں نازل ہوئی اور ۹ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنٰهَا فِيْهَا اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ

یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور جس کو ہم نے فرض کیا ہے اور اس سورت میں ہم نے روشن آیتیں اتاری ہیں

لَعَنَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ

تا کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، تو تم اُن میں سے

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَأْتِي جَلْدًا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ

ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔ اور تمہیں اُن پر رحم نہ آئے

فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اللہ کے حکم کی تعمیل میں اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخری دن پر۔

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ الزَّانِي

اور چاہئے کہ اُن کو سزا دیتے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت موجود رہے۔ زنا کرنے والا مرد

لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحَهَا

نکاح نہیں کرتا مگر زنا کار عورت سے یا مشرک عورت سے۔ اور زنا کار عورت سے نکاح نہیں کرتا

إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝

مگر زنا کرنے والا مرد یا مشرک۔ اور یہ ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ

اور جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، پھر وہ چار گواہ

شَهَادَةٍ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ

نہ لائیں، تو تم اُن کو اتنی کوڑے مارو اور اُن کی گواہی کبھی بھی

شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ

قبول نہ کرو۔ اور یہ لوگ نافرمان ہیں۔ مگر وہ لوگ

تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی۔ تو یقیناً اللہ بخشنے والا،

رَحِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ

نہایت رحم والا ہے۔ اور جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور اُن کے پاس گواہ

شَهَادَةٍ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ

نہ ہوں سوائے اپنے آپ کے تو اُن میں سے ایک کی گواہی چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی

بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ

دینا ہے کہ یقیناً وہ سچا ہے۔ اور پانچویں (گواہی میں یہ کہے) کہ اللہ کی

<p>اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَيَدْرٰٓءَا عَنْهَا لعنت ہے میرے اوپر اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں۔ اور عورت سے سزا</p>
<p>الْعٰذَابِ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یقیناً یہ مرد</p>
<p>لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا جھوٹوں میں سے ہے۔ اور پانچویں گواہی (میں یوں کہے) کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو</p>
<p>اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اگر وہ مرد بچوں میں سے ہے۔ اور اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی</p>
<p>وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُوْا (تو عذاب آجاتا) اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو بدترین جھوٹ</p>
<p>بِاِلٰفِكُمْ عَصَبَةً مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمۡ بَلْ هُوَ لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ تم اس کو اپنے حق میں برامت سمجھو۔ بلکہ وہ</p>
<p>خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ اٰمْرِۙ وَّ مِنْهُمْۙ مَا كَتَبَ مِنَ الْاٰثِمِۙ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اُن میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا۔</p>
<p>وَالَّذِي تَوَلٰٓى كِبْرًا مِّنْهُمْ لَهٗ عٰذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ اور اُن میں سے جو اس جھوٹ کے بڑے حصہ کا ذمہ دار ہے اس کے لیے بھاری عذاب ہے۔</p>
<p>لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِنَّ جب تم نے اس کو سنا تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے آپ کے متعلق اچھا گمان</p>
<p>حٰزِرًا ۙ وَقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ۝ لَوْلَا جَاؤُوْا کیوں نہیں کیا؟ اور یوں کیوں نہیں کہا کہ یہ تو صاف جھوٹ ہے؟ وہ اس پر</p>
<p>عَلَيْهِۙ بِاَرْبَعَةٍ شَهَدٰٓءَ ۙ فَاِذْ لَمْ يٰٓاْتُوْا بِالشَّهَدٰٓءِ چار گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لائے</p>
<p>فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل</p>
<p>عَلَيْكُمْۙ وَرَحْمَتُهُۥ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيۙ مَا اور اس کی مہربانی نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں تو تمہیں اس کی وجہ سے جس</p>

أَفْضَمُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ
میں تم لگے رہے بھاری عذاب پہنچتا۔ جب کہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل کرتے تھے

وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ
اور تم اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں اور تم اسے ہکا

هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ
سمجھتے تھے۔ حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری ہے۔ اور جب تم نے اس کو سنا تو تم نے یوں

قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ۖ سُبْحَانَكَ هَذَا
کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم یہ بات زبان پر لائیں۔ اے اللہ! تو پاک ہے، یہ

بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ۝ يَعُظُّكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا
تو بھاری بہتان ہے۔ اللہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا کبھی بھی

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَيَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ
اگر تم ایمان والے ہو۔ اور اللہ تمہارے لیے صاف صاف آیتیں بیان کرتا ہے۔ اور اللہ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ
علم والا، حکمت والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں

فِي الدِّينِ أَمْنًا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
اور اللہ جانتا ہے اور تم جانتے نہیں ہو۔ اور اگر اللہ کا فضل

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا
اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہوتی (تو عذاب آتا) اور یہ کہ اللہ نہایت شفقت والا، رحمت والا ہے۔ اے

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۖ وَمَنْ يَتَّبِعْ
ایمان والو! تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو۔ اور جو شیطان

خُطُوتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
کے قدم بقدم چلے گا تو یقیناً شیطان بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مَن
اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا

أَحَدٍ أَبَدًا ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرِكِّي مَنْ يُشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
(توبہ کر کے)، لیکن اللہ پاک بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے (توبہ قبول کر کے)۔ اور اللہ سننے والا،

عَلِيمٌ ۚ وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ
علم والا ہے۔ اور تم میں سے بزرگی والے اور وسعت والے اس کی قسم نہ کھائیں

أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ
کہ وہ مال نہیں دیں گے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستہ میں ہجرت

فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَيَعْفُوا وَيُضْفَحُوا ۗ لَا تَجْحَدُونَ أَنْ يُعْفَرَ
کرنے والوں کو۔ بلکہ انہیں چاہئے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ

اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ
تمہاری مغفرت کر دے۔ اور اللہ بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو تہمت

الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر، اُن پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ
اور اُن کے لیے بھاری عذاب ہے۔ اس دن جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں

وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ يَوْمَئِذٍ
اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر اُن اعمال کی جو وہ کرتے تھے۔ جس دن

يُؤْفِقِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ
اللہ انہیں انصاف کے تقاضے کے مطابق پوری سزا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ

الْحَقُّ السُّبِّينَ ۝ الْخَبِيثَاتِ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ
برحق ہے، صاف صاف بیان کرنے والا ہے۔ بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں اور برے مرد

لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ
بری عورتوں کے لیے ہیں۔ اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے ہیں اور اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے ہیں۔

أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
یہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اُن کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی

كَرِيمٌ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ
روزی ہے۔ اے ایمان والو! تم اپنے گھروں کے علاوہ گھروں میں داخل

بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَ تَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ

یہ مت ہو جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو اور وہاں والوں کو سلام نہ کر لو۔

خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۱۹﴾ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا

تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو

أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۗ وَإِن قِيلَ

نہ پاؤ تو اس میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ اور اگر تم سے کہا جائے

لَكُمْ اِرْجِعُوا فَارْجِعُوا ۗ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ

کہ تم واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی والا ہے۔ اور اللہ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۰﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا

تمہارے اعمال جانتے ہیں۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں کہ تم داخل ہو

بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

ایسے گھروں میں جس میں رہائش نہ ہو، جس میں تمہارا سامان ہو۔ اور اللہ جانتا ہے

مَا تُبَدُّونَ وَمَا تُكْتُمُونَ ﴿۲۱﴾ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا

ان باتوں کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آپ فرمادیجیے ایمان والوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں

مِّنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ

پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے

لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿۲۲﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ

پاکیزگی والا ہے۔ یقیناً اللہ باخبر ہے ان کاموں سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور آپ ایمان والی عورتوں سے

يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ

اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر وہ جو اس میں سے ظاہر ہو جاتی ہو، اور انہیں چاہئے کہ اپنی اوڑھنیوں کے

بِخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

آنچل اپنے گریبان پر ڈال لیا کریں۔ اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں

إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپ دادا کے سامنے یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے سامنے یا

أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي

اپنے بیٹوں کے سامنے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں

إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ

کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی عورتوں کے سامنے

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ الَّذِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ

یا اپنی مملوکہ باندیوں کے سامنے یا اُن خادموں کے سامنے جو حاجت والے

مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ

نہیں ہیں، (یہ فہرست بالغ) مردوں میں سے (ہے)، یا ان بچوں کے سامنے جو اب تک عورتوں کی چھپی ہوئی

النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ

چیزوں پر مطلع نہیں ہوئے۔ اور ان عورتوں کو چاہئے کہ وہ اپنے پیروں سے نہ ماریں تاکہ معلوم ہو جائے اُن کی وہ

مِنَ زِينَتِهِنَّ ۖ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ

زینت جسے وہ چھپا رہی ہیں۔ اور سب اللہ کی طرف توبہ کرو، اے ایمان والو!

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ۝ وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ

تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اپنے میں سے بے نکاحوں کا نکاح کرا دو اور تمہارے غلام

مِنَ عِبَادِكُمْ وَآيَاتِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اور تمہاری باندیوں میں سے جو نیک ہوں ان کا نکاح کرا دو۔ اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ وَلْيَسْتَعْفِفِ

انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور اللہ وسعت والے علم والے ہیں۔ اور چاہئے کہ پاک دامن

الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ

رہیں وہ جو نکاح کی قدرت نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے

مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ

غنی کر دے۔ اور جو مکتب بننا چاہتے ہیں تمہارے غلام باندیوں

أَيْمَانِكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ

میں سے تو انہیں مکتب بنا لو اگر تم ان میں بھلائی جانو۔ اور ان کو دو

مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۖ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتَكُمْ

اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اور تم اپنی باندیوں کو زنا پر

عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوهُ عَرَضَ الْحَيَوةِ

مجبور مت کرو تاکہ تم دنیوی زندگی کا سامان تلاش کرو اگر وہ پاک دامن رہنا

الذُّنْيَاءِ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ

چاہیں۔ اور جو ان کو مجبور کرے گا تو یقیناً اللہ اُن کے مجبور کیے جانے کے بعد

عَفْوٌ سَرِيحٌ ۝ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ صَافٍ صَافٍ اتَّارِي هِي

بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف صاف صاف آیتیں اتاری ہیں

وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً

اور اُن لوگوں کی مثال اتاری ہے جو تم سے پہلے گزر چکے اور متقیوں کے لیے نصیحت

لِّلْمُتَّقِينَ ۝ اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ

اتاری ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور

نُورِهِ كَمِثْلِ نُورِ كَوْكَبٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۚ

کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک طاقتور جس میں چراغ ہو۔ چراغ ایک شیشہ میں ہو۔

الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ

شیشہ ایسا جیسا کہ چمکتا ہوا ستارہ، اسے ایندھن دیا جاتا ہے بابرکت زیتون کے

زَيْتُونَةٍ ۚ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۚ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ

درخت سے جو نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی۔ اس کا تیل قریب ہے کہ روشنی دے دے

وَأَن لَّمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن

اگرچہ اسے آگ نہ چھوئی ہو۔ نور کے اوپر نور۔ اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی دیتا ہے جسے

يَشَاءُ ۗ وَ يُضْرِبُ اللَّهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ

چاہتا ہے۔ اور اللہ انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ ہر چیز کو

شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ فِي بُيُوتِ اٰذِنِ اللّٰهِ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذَكَرَ

خوب جاننے والے ہیں۔ ان گھروں میں جن کے بلند کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا اور جن میں اللہ کا نام

فِيهَا اسْمُهُ ۙ يُسَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِالْعُدُوِّ وَالْاَصْحٰلِ ۝

لیے جانے کا (اللہ نے حکم دیا)۔ ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح پڑھتے ہیں

رِجَالًا ۙ لَا تُلَهِیْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّٰهِ وَ

ایسے مرد جن کو نہ تجارت غافل کرتی ہے اللہ کی یاد سے، نہ خرید و فروخت،

إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۖ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ

نہ نماز کے قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے غافل کرتی ہے۔ وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے جس میں

فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۚ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ

دل اور نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ تاکہ اللہ اُن کو بدلہ دے اُن اچھے کاموں کا جو

مَا عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ

انہوں نے کیے اور اپنے فضل سے اُن کو مزید دے۔ اور اللہ بے حساب روزی

يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ

دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں اُن کے اعمال

كَسْرَابٍ يَبْقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّالِمُ مَاءً حَلِيًّا إِذَا بَجَاءَهُ

ایسے ہیں جیسا کہ ریگستان کی سراب جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے

لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ

تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا اور اللہ کو اس کے پاس پائے گا پھر اللہ اسے اس کا حساب پورا پورا دے گا۔

وَاللَّهُ سَرِيعٌ الْحِسَابِ ۗ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَبِّيٍّ

اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ (یا) کافروں کے اعمال کا حال ایسا ہے جیسا کہ گہرے سمندر کی تاریکیاں

يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَابِطٌ ۗ

جن کو موج ڈھانپنے ہوئے ہے، اس کے اوپر بھی موج، اس موج کے اوپر بادل۔

ظَلُمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۗ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ

کئی تاریکیاں اُن میں سے ایک دوسرے کے اوپر۔ جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے

لَمْ يَكَدْ يَرِهَا ۗ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ

تو قریب بھی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے۔ اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا اس کے لیے

مِنْ نُورٍ ۗ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

کوئی نور نہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب ہی جو آسمانوں میں ہیں

وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٌ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ

اور زمین میں ہیں اور پرندے بھی صف باندھ کر۔ ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو معلوم

وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۗ وَبِاللَّهِ مُلْكٌ

کر رکھا ہے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے لیے آسمانوں

السَّلَامَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝ أَلَمْ تَرَ
اور زمین کی سلطنت ہے۔ اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں
أَنَّ اللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ
کہ اللہ بادلوں کو چلاتے ہیں، پھر ان کو جوڑتے ہیں، پھر اسے تہہ بہ تہہ
رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ وَيُنزِلُ
کرتے ہیں؟ پھر تو دیکھے گا بارش کو کہ اس کے درمیان سے نکلتی ہے۔ اور وہ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ
آسمان سے پہاڑوں کو اتارتا ہے جن میں اولہ ہوتا ہے، پھر اسے پہنچاتا ہے
مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَن يَشَاءُ ۖ يَكَاذِبُنَا بِرَقِبِهِ
جسے چاہتا ہے اور ہٹاتا ہے اس کو جس سے چاہتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک
يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ۚ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ
بینائی کو بھی سلب کر لے۔ اللہ رات اور دن کو پلٹتے ہیں۔
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝ وَاللَّهُ
یقیناً اس میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے۔ اور اللہ نے
خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمِينُ
ہر چلنے والے جانور کو پیدا کیا پانی سے۔ پھر ان میں سے کچھ چلتے ہیں
عَلَى بَطْنِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمِينُ عَلَى رِجْلَيْنِ ۖ وَمِنْهُمْ
اپنے پیٹ کے بل۔ اور ان میں سے کچھ چلتے ہیں دو پیروں پر۔ اور ان میں سے کچھ
مَنْ يَمِينُ عَلَى أَرْبَعٍ ۖ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۖ إِنَّ اللَّهَ
چلتے ہیں چار پیروں پر۔ اللہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یقیناً اللہ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ ۖ
ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ یقیناً ہم نے صاف صاف آیتیں اتاری ہیں۔
وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔
وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى
اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر اور ہم نے اطاعت کی، پھر ان میں

فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۖ وَمَا أَوْلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۳﴾

سے ایک جماعت اس کے بعد اعراض کرتی ہے۔ اور یہ مؤمن نہیں ہیں۔

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ

اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے

إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرَضُونَ ﴿۲۴﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ

تو اچانک ان میں سے ایک جماعت اعراض کرتی ہے۔ اور اگر ان کا حق ہو

يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿۲۵﴾ أَفِ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

تو وہ اس کی طرف تیز دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ کیا ان کے دلوں میں مرض ہے

أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ

یا وہ شک کرتے ہیں یا وہ ڈرتے ہیں اس سے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟

بَلْ أَوْلِيكُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۶﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ

بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ ایمان والوں کا تو کہنا یہ ہوتا ہے

إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ

جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے

أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۲۷﴾

کہ وہ کہیں کہ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (ہم نے سن لیا اور خوشی سے مان بھی لیا)۔ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ

اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات خوشی سے مانے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور تقویٰ اختیار کرے گا تو یہی

هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۲۸﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ آيَابِهِمْ

لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی قسموں کو مؤکد کر کے

لِيَنْ أَمْرَتِهِمْ لِيُخْرِجَنَّ ۖ قُلٌّ لَّا تَقْسِمُوهَا طَاعَةً

کہ اگر آپ ان کو حکم دو گے تو ضرور وہ نکلیں گے۔ آپ فرما دیجیے کہ تم قسمیں مت کھاؤ۔ تمہاری

مَعْرُوفَةٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۲۹﴾ قُلْ

اطاعت جانی پچھانی ہے۔ یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ آپ فرما دیجیے

أَطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا

کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو اس کے ذمہ

عَلَيْهِ مَا حَيْلٌ وَ عَلَيْكُمْ مَا حُبَاتُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوهُ
وہی ہے جو اس پر بوجھ رکھا گیا ہے اور تم پر وہ ہے جس کا تمہیں مکلف بنایا گیا ہے۔ اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے

تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۵۴﴾
تو راہ پا جاؤ گے۔ اور رسول کے ذمہ سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے کچھ بھی نہیں۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
اللہ نے وعدہ کیا ہے اُن لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
کہ ضرور اللہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اُن سے پہلے والوں کو

مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
خلیفہ بنایا۔ اور ضرور اُن کے لیے اُن کا دین مضبوط کر دے گا جو اُن کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے

وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي
اور اُن کے خوف کے بعد انہیں امن بدلہ میں دے گا۔ اس لیے کہ وہ میری عبادت کرتے ہیں

لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
اور میرے ساتھ کوئی چیز شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور جو اس کے بعد کفر کرے گا تو یہی

هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۵۵﴾ وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ
لوگ نافرمان ہیں۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو

وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۶﴾ لَا تَحْسَبَنَّ
اور رسول کا کہنا مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو مت سمجھو کافروں کو

الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَهُمُ النَّارُ
کہ زمین میں (بھاگ کر) اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ اور اُن کا ٹھکانا جہنم ہے۔

وَلَيْسَ الْمُبْتَلِينَ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ
اور وہ بری جگہ ہے۔ اے ایمان والو! چاہئے کہ تم سے (داخل ہوتے وقت) اجازت طلب کریں

الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ
تمہارے مملوک (غلام باندیاں) اور وہ بچے جو تم میں سے بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ
تین مرتبہ (اجازت طلب کریں)۔ فجر کی نماز سے پہلے اور جس وقت تم اپنے

ثِيَابِكُمْ مِنَ الظُّهَيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۗ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُوهُنَّ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۷﴾	یہ تین کپڑے اتارتے ہو دوپہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد۔ تم پر اور ان پر ان تین اوقات کے بعد کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ تمہارے پاس بار بار آنے جانے والے ہیں، تم میں سے ایک دوسرے کے پاس۔ اسی طرح تمہارے لیے اللہ آیتوں کو صاف بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ علم والے، حکمت والے ہیں۔
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ۚ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۸﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۹﴾	اور جب تم میں سے بچے بلوغ کی عمر کو پہنچ جائیں، تو انہیں بھی چاہئے کہ اجازت لیں جس طرح کہ وہ اجازت لیتے تھے جو ان سے پہلے تھے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں صاف بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ علم والے، حکمت والے ہیں۔ اور عورتوں میں سے وہ بیٹھی ہوئی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتاریں اس حال میں کہ وہ زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں۔ اور یہ کہ وہ پاک دامن بن کر رہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ سننے والے، علم والے ہیں۔
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ۚ وَأَنْ تَاكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ	اندھے پر کوئی حرج نہیں اور لنگڑے پر کوئی حرج نہیں اور بیمار پر کوئی حرج نہیں اور تمہارے اپنے اوپر کوئی حرج نہیں اس میں کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے

<p>أَمْهَلَتْكُمْ أَوْ بَيَّوتَ إِخْوَانَكُمْ أَوْ بَيَّوتَ أَخَوَاتِكُمْ</p> <p>گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے</p>
<p>أَوْ بَيَّوتَ أَعْمَامَكُمْ أَوْ بَيَّوتَ عَشِيرَتِكُمْ أَوْ بَيَّوتَ</p> <p>یا اپنے بچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے</p>
<p>أَخْوَالِكُمْ أَوْ بَيَّوتَ خَلَائِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ</p> <p>گھروں سے یا اپنی خالادوں کے گھروں سے یا اُن گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو</p>
<p>أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا</p> <p>یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کہ تم کھاؤ</p>
<p>بِمَيْعَةٍ أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا</p> <p>اکٹھے یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو تم</p>
<p>عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً ۚ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ ۚ</p> <p>اپنے آپ پر سلام کرو اللہ کی طرف سے برکت والے عمدہ تحیہ</p>
<p>طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ</p> <p>کے طور پر۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ تم</p>
<p>تَعْقِلُونَ ۗ ۚ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ</p> <p>سمجھو۔ ایمان والے تو وہی ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر</p>
<p>وَرَسُولِهِ ۚ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ</p> <p>اور اس کے رسول پر، اور جب وہ رسول کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام پر</p>
<p>لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا ۚ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ</p> <p>تو وہ نہیں جاتے جب تک کہ وہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے اجازت نہ مانگ لیں۔ یقیناً جو آپ سے اجازت مانگتے</p>
<p>أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ</p> <p>ہیں، یہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔</p>
<p>فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ</p> <p>پھر جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں اپنے کسی کام کے لیے تو آپ اجازت دے دیجیے ان میں سے</p>
<p>مِنْهُمْ ۚ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝</p> <p>جسے آپ چاہیں، اور اُن کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ یقیناً اللہ بخشنے والے، نہایت رحم والے ہیں۔</p>

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ

تم اپنے درمیان رسول کے بلانے کو تمہارے ایک دوسرے کے بلانے کی طرح

بَعْضَاءُ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ

مت بناؤ۔ یقیناً اللہ جانتا ہے اُن لوگوں کو جو تم میں سے چپکے سے سرک کر

لِوَادَاءٍ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ

نکل جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہئے

أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۳﴾

اس سے کہ اُن پر کوئی آفت آ جائے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے۔

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ قَدْ يَعْلَمُ

سنو! یقیناً اللہ کی ملک ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ یقیناً اللہ جانتا ہے

مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ۗ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ

اس کو جس پر تم ہو۔ اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں اُن کے اعمال کی خبر دے گا

بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۴﴾

جو انہوں نے کیے۔ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

الْبَائِطَاءُ ۗ (۲۵) سُورَةُ الْفُرْقَانِ كِتَابٌ (۲۲) كُوْنَا فِيهَا ۖ

اس میں سے آیتیں ہیں سورۃ الفرقان مکہ میں نازل ہوئی اور ۶ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔

تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهِ لِيَكُوْنَ

بلندشان والا ہے وہ اللہ جس نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری اپنے بندہ پر تاکہ

لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا ﴿۲﴾ الَّذِیْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہے۔ وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی

وَالْاَرْضِ وَكَلَّمَ یَتَّخِذُ وَلَدًا ۗ وَلَمْ یَكُنْ لَهُ شَرِیْكٌ

سلطنت ہے اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور اس کا سلطنت میں کوئی

فِی الْمَلٰٓئِكَةِ وَخَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِیْرًا ﴿۳﴾

شریک نہیں اور اس نے ہر چیز پیدا کی، پھر سب کی مقدار متعین کر رکھی ہے۔

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهَا آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا	اور یہ اللہ کے سوا کئی معبود قرار دیتے ہیں، جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا
وَهُمْ يُخْلُقُونَ وَلَا يَبْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا	بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور اپنے جانوں کے لیے بھی کسی نفع نقصان کے
وَلَا نَفْعًا وَلَا يَبْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوَةً	مالک نہیں ہیں اور موت اور حیات کے بھی مالک نہیں ہیں
وَلَا تُشْرِكُوا ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن هَذَا	اور نہ زندہ ہو کر اٹھنے کے مالک ہیں۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہے
إِلَّا إِنْكَارٌ لِّآيَاتِنَا وَعَانَةٌ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخِرُونَ ۝	مگر جھوٹ جس کو اس نبی نے گھڑ لیا ہے اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔
فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَ زُورًا ۚ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ	یقیناً وہ ظلم اور جھوٹی بات لائے ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو انگوں کی گھڑی ہوئی
الْأَوَّلِينَ اَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُرْهَةً	کہانیاں ہیں جنہیں اس نبی نے لکھ لیا ہے، پھر وہی اس پر صبح و شام پڑھی
وَأَصِيلًا ۚ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ	جاتی ہیں۔ آپ فرما دیجیے کہ یہ اس نے اتارا ہے جو چھپے ہوئے بھید جانتا ہے
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا	آسمانوں میں اور زمین میں۔ یقیناً وہ بخشنے والا، نہایت رحم
رَحِيمًا ۚ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ	والا ہے۔ اور یہ کفار کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے کہ وہ کھانا
الطَّعَامِ وَيَشْرِي فِي الْأَسْوَاقِ ۚ لَوْلَا أَنْزَلَ	بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے؟ اس پر کوئی فرشتہ
إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۚ أَوْ يُنذِرُ	کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا؟ یا اس کی
إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ	طرف خزانہ ڈال دیا جاتا یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ کھاتا۔

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْجُورًا ﴿۱۸﴾

اور ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک مسجور شخص کے پیچھے چل پڑے ہو۔

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا

آپ دیکھئے کہ انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، پھر وہ گمراہ ہو گئے،

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿۱۹﴾ تَبْرَكَ الَّذِي

اب راہ نہیں پا سکتے۔ اوجی شان والا ہے وہ اللہ

إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ بَدَلًا

اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر باغات بنا دے

تَجْرِبُنِي مِنَ نَهْرِي الْأَنْهَارِ ۚ وَيَجْعَلْ لَّكَ

جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں اور آپ کے لیے محل

فُصُورًا ﴿۲۰﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا

بنا دے۔ بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا۔ اور ہم نے

لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿۲۱﴾ إِذَا رَأَوْهُمُ

اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلایے آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب یہ آگ

مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَبِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا

ان کو دور جگہ سے دیکھے گی، تو وہ اس آگ کا غصہ اور چلانا

وَزَفِيرًا ﴿۲۲﴾ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقْرَّبِينَ

سین گے۔ اور جب وہ اس جہنم میں تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے ہاتھ پیر جکڑے ہوئے

دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿۲۳﴾ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا

تو وہاں موت کی دعا کریں گے۔ (تو فرشتے کہیں گے کہ) تم آج ایک موت

وَأَحَدًا ۖ وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿۲۴﴾ قُلْ أَدْرَاكَ خَيْرٌ

کو نہ پکارو، بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ آپ فرما دیجیے کیا یہ بہتر ہے

أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۗ كَانَتْ

یا ہمیشہ کی وہ جنت بہتر ہے جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے؟ جو

لَهُمْ جَزَاءٌ ۖ وَمَصِيرًا ﴿۲۵﴾ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

ان کا بدلہ اور ٹھکانا ہے۔ ان کے لیے اس جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے

خُلِدِينَ ۖ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ﴿۱۷﴾

ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے ذمہ یہ لازم ہے ایسے وعدہ کے طور پر جس کا سوال کیا جاسکتا ہے۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

اور جس دن اللہ انہیں اور جن چیزوں کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے ان کو اکٹھا کرے گا

فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ

پھر اللہ کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کر رکھا تھا

أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿۱۸﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ

یا وہ خود راستہ سے بھٹک گئے تھے؟ معبود کہیں گے کہ آپ پاک ہیں! ہمارے لیے

يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ

مناسب نہیں تھا کہ ہم آپ کے علاوہ کوئی حمایتی

مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلٰكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا

بناتے، لیکن آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو آسودگی عطا کی یہاں تک کہ وہ یہ

الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿۱۹﴾ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ

ذکر بھلا بیٹھے۔ اور وہ ہلاک ہونے والی قوم تھی۔ اب ان معبودوں نے تمہاری باتوں میں

بِمَا نَقُولُونَ ۚ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا

تمہیں جھوٹا ٹھہرایا، اس لئے عذاب ہٹانے اور (اپنی) نصرت کرنے کی تم طاقت نہیں رکھ سکو گے۔

وَمَنْ يَظْلِمِ مِّنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿۲۰﴾

اور جو تم میں سے ظلم کرے گا تو ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے

إِلَّا إِتَّهَمُوا لِيَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَ يَسْهُونَ

وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں

فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً

چلتے تھے۔ اور ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش (کا ذریعہ) بنایا ہے۔

أَتَصِدُّونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿۲۱﴾

کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب سب دیکھ رہا ہے۔